

ROOTWORDS OF SURAH AL IMRAN 133-143

السَّارِعُونَ	السَّرَّاءِ	السَّرَّاءِ	أُعِدَّتْ	سَارِعُونَ
س ر ع	ض ر ر	س ر ر	ع د د مجهول	س ر ع
جلدی کرو	تنگی میں	خوشحالی	تیار کی گئی ہے	جلدی کرو
Hasten	The hardship	The ease	Prepared	Hasten

الْعَافِينَ	يُصِرُّوْا	خَلَّتْ	تَّ+هِنُوا	الْعَيْظُ
ع ف و	ص ر ر	خ ل و	ضمير + و ه ن	غ ي ظ
در گزر کرنے والے ہیں	وہ اصرار کرتے	گزر چکیں	تم + سستی کرو	غصے کو
Those who pardon	they persist	Passed	Weaken	The anger

تَّ+حَزْنُوا	يَمَسُّسْ+كُم	قَرَحٌ	نُّ+دَاوِلُ+هَا	تَّ+حَزْنُوا
ضمير + ح ز ن	م س س + ضمير	ق ر ح	د و ل	ضمير + ح ز ن
تم + غم کرو	پہنچا + تم کو	کوئی زخم	ہم + پھیرتے رہتے ہیں + ان کو	تم + غم کرو
Grieve	Touched you	A wound	We alternate them	Grieve

رَأَى + تُمُو + هُ	تَلَقَوْ + هُ	حَسِبَ + تُمْ	يَمْحَق	لِ + يُمَحِّص
ر أ ي + ضمير + ضمير مفعول	ل ق ي + ضمير مفعول	ح س ب + ضمير	م ح ق	ح ر ف + م ح ص
دیکھ لیا + تم نے + اس کو	تم ملاقات کرو + اس سے	سمجھا + تم نے	مٹادے	تاکہ + خالص کر لے
You have seen it	You met it	Do you think	Destroy	so that may purify